

FA Part 2 Home Economics Full Book Online MCQ's Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	کونسا نظام ٹھیک کام نہ کرے تو ہڈیاں کمزور ہوجاتی ہیں	A. نظام استخوان B. نظام تنفس C. نظام اخراج D. نظام عضلات
2	پرانی، ہلکی اور گلی سڑی خوراک نہ صرف کس کے زیاں کا باعث ہوتی ہے	A. تکلیف کا B. وقت کا C. پریشانی کا D. روپے پیسے کا
3	کاربوہائیڈریٹ کو نشاستہ کہا جاتا ہے	A. اردو زبان میں B. فارسی زبان میں C. انگریزی زبان میں D. پنجابی زبان میں
4	ہم سوت حاصل کرتے ہیں	A. کپاس کے پودے سے B. ریشم کے کیڑے سے C. جانوروں کی کھال سے D. لینن کے پودے سے
5	فیصد صوفے کے کیڑے میں رے اُن کا استعمال ہوتا ہے.....	A. 70% B. 80% C. 40% D. 50%
6	ایک اچھے فٹنگ کا لباس تیار کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے	A. لیور کی B. ڈرافٹنگ کی C. مناسب لباس کی D. پیمانے کی
7	کمر کی لمبائی ہوتی ہے	A. 20 انچ B. 26 انچ C. 28 انچ D. 30 انچ
8	ہماری خوراک سے حاصل کی ہوئی قوت و توانائی کا کتنے فیصد حصہ نشاستہ پر مشتمل ہوتا ہے	A. 50 فیصد B. 90 فیصد C. 30 فیصد D. 60 فیصد
9	ہماری ہڈیاں اور دانت مضبوط بنادیتے ہیں	A. سلفر اور سوئیم B. کیلشیم اور فسفورس C. فسفورس اور وٹامن D. لوہا اور وٹامن
10	کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن یہ چاروں کیمیائی اجزا ہمارے جسم کا تقریباً کتنے فیصد حصہ تعمیر کرتے ہیں	A. 69% B. 58% C. 59% D. 96%
11	حیاتیات کا اچھا ذریعہ کیا ہوتی ہیں	A. دالیں B. بری پتے اور ترکاریاں C. سبزلیں D. نارنگیاں
12	غذا کا انتخاب کرتے ہوئے انسان کو کس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے	A. لباس کا B. قد کا C. صحت کا D. عمر کا
13	کون سے مرکبات کاربن، ہائیڈروجن، اور آکسیجن کے کیمیائی عناصر پر مشتمل ہوتے ہیں	A. سیر شدہ B. روغنی C. کاربن D. غیر سیر شدہ
14	تین سے چھ سال کی عمر کے بچوں میں جسمانی نشوونما کے لحاظ سے کس کی نشوونما ہورہی ہوتی ہے	A. ہاتھوں اور ہڈیوں کی B. عضلات کی C. ان کے قد کی D. اعصاب کی
15	حیاتیات (ج) کا کیمیائی نام ہے	A. سلفیورک ایسڈ B. کاربانک ایسڈ C. اسکارک ایسڈ D. میتھائل ایسڈ

16	کھولنے اور ملانے کے بعد تمام ریشوں کو ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں	A. بورنگ مشین B. واٹنگ مشین C. سلانی مشین D. کارٹنگ مشین
17	حیاتی (ج) کی کمی سے کون سی بیماری لاحق ہوتی ہے	A. ملیریا B. تینج C. ٹائیفائیڈ D. سکروی
18	نمکیات کا دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم کے کس عضو میں پانی کی مقدار کو بڑھانے نہیں دیتے نہ گھٹانے دیتے ہیں	A. معدہ کو B. انتوں کو C. ہاضمہ کو D. جگر میں
19	دیگچی کو ڈھکن سے ڈھانپنا ضروری ہے اس سے کتنے فیصد تک حیاتی (ج) کی مقدار ضائع ہونے سے بچائی جاسکتی ہے	A. 5% سے 10% B. 10% سے 20% C. 20% سے 40% D. 30% سے 105%
20	غذا کو ضرورت سے زیادہ کیا نہیں کرنا چاہیے	A. خشک B. نرم C. سخت D. دھونا